

آگے آنے والے ان مواقع پر برامپٹن کے تنوع کا جشن منائیں

ہمارے ساتھ سکھ ہیریٹیج منتھ اور سٹی کے پہلے کمیونٹی افطار میں شامل ہو جائیں۔

برامپٹن، آن (25 اپریل 2019) – سٹی آف برامپٹن آنے والے ہفتوں میں دو مواقع کے ساتھ اپنی تنوع کا جشن منا رہا ہے۔ تمام رہائشیوں کو 27 اپریل کو ہماری سکھ کمیونٹی کے جشن اور 16 مئی کو سٹی کے پہلے کمیونٹی افطار میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔

سکھ ہیریٹیج منتھ

سٹی آف برامپٹن نے کینیڈا میں رہائش پذیر سکھ کمیونٹی کی برامپٹن اور پورے ملک کے لیے اہم خدمات کے اعتراف میں اپریل کو سکھ ہیریٹیج منتھ قرار دیا ہے۔ 27 اپریل کو شام 5:30 بجے سٹی ہال اٹریم میں روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے، رابطے بنانے اور آپس میں گھلنے ملنے اور متاثر کن مقررہ کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد سکھ ہیریٹیج منتھ فاؤنڈیشن کی اختتامی تقریب ہو گی، جس میں براہ راست تقریح، ثقافتی معلومات، ایک فنکار کی مارکیٹ پلیس اور مزید چیزیں نمایاں ہوں گی۔

کمیونٹی افطار

رمضان مبارک! سٹی آف برامپٹن 16 مئی کو شام 7 بجے گارڈن اسکوائر میں اپنے پہلے کمیونٹی افطار کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ تقریب غروب آفتاب کے وقت، جب مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے رات کے مفت کھانے کے ساتھ رمضان کے پاک مہینے کو تسلیم کرتی ہے۔ تمام لوگوں کو ایک روح پرور اسٹیج پروگرام، ثقافتی نمائشوں اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ ملاقاتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے، جس کے بعد نماز اور روایتی کھانا ہو گا۔

بندوبست محدود ہے، لہذا برائے مہربانی 12 مئی تک www.brampton.ca/events پر اپنی شرکت کی تصدیق کریں۔

یہ تقریبات برامپٹن کے کمیونٹی ریکگنیشن پروگرام کا حصہ ہیں، جو ثقافتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہے، جن کا سٹی پورے سال کے دوران برامپٹن کے تنوع کے اعزاز میں انعقاد کرتا ہے۔ یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والی کئی کمیونٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہیں۔

ان اور شہر کی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/events ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"کونسل کی جانب سے، ہم سب کو فخر ہے کہ سٹی اس سال کئی ثقافتی تقریبات کے ذریعے برامپٹن کے زبردست تنوع کا جشن منا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ثقافتی پس منظروں سے تعلق رکھنے والے رہائشی 27 اپریل کو برامپٹن میں سکھ کمیونٹی کے بھرپور ورثے کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور 16 مئی کو کمیونٹی افطار میں ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca